

34730- اولاد کے لیے بہت زیادہ قسم کھائیں لیکن انہیں نہ تو پورا کیا اور نہ ہی کفارہ ادا کیا

سوال

میں اپنی اولاد پر بہت زیادہ قسمیں کھاتا کہ وہ یہ کام نہ کریں، پھر میں اس قسم کو ختم کر دیتا کہ اس کا کفارہ دے دوں گا، دن گزرتے گئے اور میں نے کفارہ ادا نہیں کیا، یہ علم میں رہے کہ میں قسمیں بہت زیادہ کھاتا اور پھر ختم کر دیتا ہوں، لیکن قصد کے بعد، الحمد للہ میں توبہ کر چکا ہوں اور قسمیں نہیں کھاتا، مجھے اس کے متعلق حکم بتائیں؟

پسندیدہ جواب

قسم میں زیادتی کرنا مکروہ ہے؛ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اور آپ ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیں﴾۔ اللقم (10).

اور یہ قسم کھانے والے کی مذمت ہے، جو قسم کھانے کی کراہت پر دلالت کرتی ہے، جیسا کہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے۔

دیکھیں: المغنی لابن قدامہ المقدسی (439/13)

اور جب آپ اپنی اولاد یا کسی اور پر قسم کھائیں اور اس قسم کا مقصد یہ ہو کہ وہ کوئی کام کریں یا نہ کریں، اور انہوں نے آپ کی مخالفت کی تو آپ پر ہر اس قسم کے بدلے جو پوری نہ کی ہو اس میں کفارہ ہے۔

کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تمہارا مواخذہ نہیں کرتا، لیکن اس پر مواخذہ فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو، اس کا کفارہ دس محتاجوں کو کھانا دینا ہے اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو لباس دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا، ہے، اور جو کوئی نہ پائے تو وہ تین دن کے روزے رکھے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کا خیال رکھو! اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو﴾۔ المائدہ (89).

اور اگر آپ نے ایک ہی چیز پر بار بار قسم اٹھائی ہو تو آپ کو ایک کفارہ ہی لازم آتا ہے، اور اگر آپ نے کئی ایک متعدد اشیاء پر قسمیں اٹھائیں ہوں تو جن اشیاء پر قسم اٹھائی ہو ان کی تعداد کے مطابق کفارات ادا کرنا ہونگے۔

اور آپ یقینی طور پر قسم کی تعداد سے جاہل اور غافل ہیں تو آپ ان کی تعداد تحدید کی کوشش کریں، اور اپنے گمان پر غالب آنے والی تعداد کے مطابق کفارے ادا کریں، حتیٰ کہ آپ کے گمان میں آجائے کہ آپ کے ذمہ واجب قسموں کا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔

اور قسم کا کفارہ مندرجہ بالا آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ: دس مکھینوں کو اوسط درجے کا کھانا دینا، یا انہیں لباس مہیا کرنا، یا ایک غلام آزاد کرنا ان تین اشیاء میں سے ایک اختیار کرنا ہوگی، لیکن ان کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو پھر آپ تین یوم کے روزے رکھیں۔

مستقل فتویٰ کمیٹی سے مندرجہ ذیل سوال کیا گیا:

میں قسم اٹھایا کرتا تھا کہ ایسا کرونگا لیکن اسے پورا نہیں کرتا تھا، میرا ارادہ تھا کہ میں اس کا کفارہ ادا کرونگا، تو کیا اس کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے؟

یہ علم میں رہے کہ میں نے کئی ایک بار قسم اٹھائی لیکن ان کی تعداد کا علم نہیں؟

کیٹی کا جواب تھا:

(آپ نے جو قسمیں پوری نہیں کیں ان کی تعداد متعین کرنے کی کوشش کریں اور اس کی تقریباً تعداد کو متعین کر کے اس کا کفارہ ادا کر دیں، یہ اس صورت میں ہے جب قسم کئی ایک مختلف معاملات میں ہو، لیکن اگر اس میں کوئی قسم ایک ہی چیز پر ہو مثلاً: اللہ کی قسم میں زید کے پاس نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم میں زید کے پاس نہیں جاؤں گا، تو اس میں ایک ہی کفارہ ہوگا)۔
انتہی

ماخوذ از: فتاویٰ اسلامیہ (481/3)۔

اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے:

(اور اسی طرح وہ قسم جو ایک فعل کے کرنے یا کسی ایک چیز کے ترک کرنے پر اٹھائی گئی ہو، چاہے اس کا تکرار بھی ہوا ہو اور اس میں سے پہلی قسم کا کفارہ ادا نہ کیا گیا ہو اس میں ایک کفارہ ہی ہے..... لیکن اگر قسمیں کئی ایک افعال کرنے یا کئی ایک افعال ترک کرنے میں اٹھائی گئی ہوں تو پھر ہر قسم کے بدلے ایک کفارہ دینا ہوگا۔

مثلاً اگر اس نے یہ کہا ہو: اللہ کی قسم میں فلاں شخص سے کلام نہیں کرونگا، اللہ کی قسم میں اس کا کھانا نہیں کھاؤنگا، اللہ کی قسم میں یہ سفر نہیں کرونگا، یا یہ کہے: اللہ کی قسم میں فلاں شخص سے بالکل بات نہیں کرونگا، اللہ کی قسم میں اسے ضرور زد کوب کرونگا، اور اس کی طرح کی کلام اور کھانا دینے میں ہر مسکین کو علاقے کی غذا میں سے نصف صاع جو تقریباً ڈیڑھ کلو بنتا ہے دینا ہوگا۔

اور لباس میں وہ لباس دینا ہوگا جو نماز کے لیے کافی ہو، جیسا کہ قمیص شلوار، یا تہ بند اور اوپر اوڑھنے کے لیے چادر، اور اگر آیت کریمہ کے عموم کی بنا پر انہیں دوپہر یا رات کا کھانا کھلا دے تو کافی ہے)۔ انتہی

ماخوذ از: فتاویٰ اسلامیہ (480/3)۔

واللہ اعلم۔